

## سٹی نے 'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ' کی نقاب کشائی کر دی ہے



برامپٹن، آن (24 مئی 2022) – آج، سٹی آف برامپٹن نے اپنے برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ (Brampton Grows Off-Grid Shed) کی نقاب کشائی کر دی ہے، جو اس کا پہلا آرگینک، خود کو برقرار رکھنے والا، دوبارہ تیار کرنے کے قابل ایک فوڈ سسٹم ہے، جو برامپٹن کے بہت سے خاندانوں کے لیے غذائی اشیاء تیار کرے گا۔

'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ'، برامپٹن پارکس اور برامپٹن فائر اسٹیشن 212 پر واقع ہے اور اس موسم گرما کے آغاز سے اسے ان کے تعاون سے فعال بنایا جائے گا۔ یہ 'نیچر ہارمونی' کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے اور یہ ایک صفر توانائی والا گرین ہاؤس ڈھانچہ ہے، جو فوڈ شیڈ سے غذائی پیداوار اگائے گا اور بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے ایک حصے کے طور پر برامپٹن میں مستحق خاندانوں کو غذائی اشیاء کی فراہمی کے لیے ری جنریشن آؤٹ ریج کمیونٹی کو عطیہ کیا جائے گا۔

یہ اختراعی ٹکنالوجی اپنے ایک ماحولیاتی نظام پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے مٹی میں اجناس اگانے، ہائیڈروپونکس اور ایکواپونکس سسٹمز کے امتزاج سے خوردنی نامیاتی پھلوں اور سبزیوں اور یہاں تک کہ کھانے کے لیے مچھلی کی پیداوار بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اس شیڈ سے کسی کا کوئی فضلہ اور کاربن بھی پیدا نہیں ہو گی، یہ قابل تجدید شمسی توانائی سے چلتا ہے اور اسے سخت سردیوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ماحولیاتی طور پر یہ قابل استحکام انڈور فارم ہر عمر کے شرکاء کے لیے شیڈ کی پیش کردہ مختلف خصوصیات کو دریافت کرنے کے لیے ایک انٹرایکٹو تعلیمی تجربہ بھی فراہم کرے گا۔

برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان کے اہداف کو آگے بڑھاتا ہے ، جو شہری زراعت کو سٹی کے لیے ایک موقع کے طور پر پیش کرتا ہے۔

**اقتباسات**

"برامپٹن سٹی کونسل نے مئی 2021 میں 'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ' کی منظوری دی تھی۔ ایک گرین سٹی کے طور پر، ہمیں برامپٹن میں ماحولیاتی استحکام کے نئے ماڈل قائم کرنے پر فخر ہے اور ہم آرگینک فوڈ شیڈ کی حمایت کے منتظر ہیں۔ نیچر ہارمنی' میں ہمارے شراکت داروں کا بھی شکریہ۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"شہری زراعت میں ایک سنگ میل، 'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ' اپنے لیے توانائی توانائی خود پیدا کرے گا، صفر فضلہ کے نظام کو برقرار رکھے گا، بارش کے پانی کو جمع کرے گا اور یہاں تک کہ کاربن کو جذب کرتے ہوئے ہمارے لیے تازہ آکسیجن بھی پیدا کرے گا۔ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے ماحولیاتی طور پر مزید قابل استحکام مستقبل کی راہنمائی کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- رووینا سیٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ ایک اختراعی اقدام ہے جو برامپٹن میں ضرورت مندوں کی مدد کرے گا۔ ہم بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے ایک حصے کے طور پر برامپٹن میں مستحق خاندانوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے لیے فوڈ شیڈ سے پیدا ہونے والی پیداوار ری جزیشن آؤٹ ریج کمیونٹی کو عطیہ کریں گے۔"

- ٹوگ ولہینز، سٹی کونسلر وارڈز 2 اور 6؛ چیئر، بیک یارڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن

"سٹی، برامپٹن میں غذائی تحفظ اور ماحولیاتی استحکام پیدا کرنے کے لیے پُر عزم ہے۔ فائر اسٹیشن پر ہمارے عملے کو 'برامپٹن گروز آف گرڈ شیڈ' کی مدد کے لیے تربیت دی جائے گی۔"

- پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹ، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)